

wakati kan ló ninu ọsan. o je imu dopin. A kò ni pa ἑnikan rę ju awon poki enia ló.

(47) Suratul Muhammadu

*Ni orukọ Qləhun Ajıkę aiye,
Aşakę ɔrun.*

1. Awon ἑniti nwon şe aigbagbó ti nwon si nṣeri awon ẹlomiran kuro ni oju ọna Qləhun, O (Qləhun) ti ba işe wọn je.

2. Awon ἑniti nwon gbagbó ni ododo ti nwon si nṣe işe rere ti nwon si ni igbagbó ododo si ohun ti a sokalé fun Muhammadu on ni ododo ti o wa lati ọdọ Oluwa wọn (Qləhun) yio pa buburu wọn rę yio si tun isesi wọn şe.

3. Eyi ni je bę nitoripe dajudaju awon ἑniti nwon şe aigbagbó nwon tèle iró, atipe awon ἑniti nwon gbagbó lododo nwon tèle ododo ti o ti ọdọ Oluwa wọn wa. Bayi ni Qləhun nfi apejuwe wọn lele fun awon enia.

4. Atipe ti ἑnyin ba pade awon ἑniti nwon şe aigbagbó (l'ogun) ki ẹ lu wọn ni ɔrun, titi di igbati ẹ ma fi bori wọn, ki ẹ de wọn ni igbekun, (nigbati ẹ ba ni isegun ifṣokantan lati ọdọ wọn), lehinna ninu ki ẹ da wọn silę, tabi kiwọn fi nkan ra ara wọn titi ti ogun yio fi pari. Eyi je



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْنَاهُمْ ۝

وَالَّذِينَ كَانُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا نَمِيَّا إِنَّهُمْ
عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَا عَنْهُمْ سَيَّئَاتُهُمْ
وَأَصْلَحَ اللَّهُمَّ ۝

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَبْعَثُ الظَّبَابَ وَأَنَّ الَّذِينَ مَأْتُوا
أَتَبْعَثُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ بَصَرِيبُ اللَّهُمَّ لِنَا
أَمْتَاهُمْ ۝

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوهُنَّا حَقَّ إِذَا اخْتَسِمُوْهُمْ
فَنَذِرُوا إِلَيْنَا فَإِمَامًا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاهُ حَتَّىٰ يَضَعَ الْمُرْبُثُ
أَوْ زَادَهَا ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْصَرَهُمْ وَلَكِنْ يَبْشِّرُوا
بَعْصَكُمْ بِيَقِينٍ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَلَمْ يُضْلَلُ أَعْنَاهُمْ ۝

bę. Ti oba şe pe Qlohuń fę ni iba gba ęsan lara wọn, şugbон (ko şe bę) ki On le dan apakan yin wo lara apakeji. Awon ęniti nwon pa (si ogun) ni oju ąna Qlohuń nitorina On kò ni pa işe wọn l'ofo.

5. On yio wa fi wọn mona yio si tun išeşi wọn şe.

سَبِّهْدُهُمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ

6. Atipe yio fi wọn wö qgba idera ti Ojuwe fun wọn.

وَنَذَّلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ

7. Ęnyin ęniti e gbagbø ni ododo, ti ęnyin ba ran Qlohuń lqwø, On yio ran nyin lqwø, yio si mu ęse nyin duro şinşin.

يَتَأْكِلُهُمْ الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُونَ تَصْرُّفُوا أَنَّهُمْ يَنْصُرُوكُمْ

وَيُنَيِّسُّ أَقْدَامَكُمْ

8. Atipe awon ęniti nwon şe aigbagbø, nitorina egbe ni fun wọn, atipe On ti ra işe wọn lare.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَعَسَّلُهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

9. Eyi je bę nitoripe dajudaju nwon korira ohun ti Qlohuń sokalę, nitorina On si ti ba işe wọn je.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَجْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

10. Nwon ko rin kiri lori ilę nigbana ki nwon wo bi atubotan awon ti o şiwaju wọn ti ri? Qlohuń pa wọn rę. Iru rę wa fun awon alaigbagbø.

أَفَلَمْ يَرَوْا فِي الْأَرْضِ فِي نَظَرٍ وَآكِفَّ كَانَ عَيْنَهُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَ اللَّهُ عَزِيزُهُمْ وَاللَّكَنِينَ أَمْتَلُهُمْ

11. Bayi ni o ri nitoripe Qlohuń ni oniranlqwø fun awon onigbagbø ododo, atipe kosi oluranlqwø kankan fun awon alaigbagbø.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُونَ أَوَّلَ الْكُفَّارِ

لَمَوْلَى لَهُمْ

12. Dajudaju Qlohuṇ yio jẹ ki awọn onigbagbọ ododo ti nwọn si nṣe işe rere wọ awọn ṣgba idera ti odo nṣan ni abẹ wọn. Atipe awọn ti kò gbagbọ yio ma gbadun nwọn yio ma jẹ onjẹ bi ḥranko ti njẹ onjẹ, atipe ina ni ibugbe fun wọn.

13. Melomelo ni awọn ilu ti o lagbara ju ilu tirę ti o le ọ jade lọ, Awa pa wọn rẹ, kò si si oluranlọwọ fun wọn.

14. Njẹ ẹniti o wa lori àlàyé qrò lati qdọ Oluwa rẹ le dabi ẹniti a şe aidara rẹ lọṣo fun? Atipe nwọn tèle fifẹ inu wọn.

15. Apejuwe Alijanna eyiti a şe ni adehun fun awọn olupaiya Qlohuṇ: Omi odo ti o wa nibẹ ki iyipada ati odo wara ti didun rẹ ki iyipada, ati odo ọti-didun ti o ndun lenu awọn ti yio mu u, ati odo oyin ti o mọ; atipe oniruru eso lo wa ninu rẹ fun wọn ati aforijin lati qdọ Oluwa wọn. (Eyi ha) dabi ẹniti yio şe gbere si inu ina ti a nfun ni omi gbigbona mu ti o fa ifun wọn ja bi?

16. Atipe o wa ninu wọn ti o nfetisi qrò rẹ titi nwọn yio fi jade ni qdọ rẹ, nwọn yio ma sọ fun awọn ti o ni mimọ pe: Kini o sọ lèkan ri? Awọn elewonyi ni awọn ti Qlohuṇ ti di ọkàn wọn pa, atipe nwọn tèle ife-inu wọn.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ
مَّغْرِيْبَةً مِّنْ تَحْمِلِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَسْتَعْنُونَ وَلَا يَكُونُ
كَانَ أَكْلُ الْأَنْقَمُ وَالنَّادُرُ مَوْتٌ لَّهُمْ ١٦

وَكَانَ قَنْ قَرْبَهُ هِيَ أَشَدُ حُوَّةً مِّنْ قَرْبَنَا
الَّتِي أَخْرَجَنَا أَهْلَكَنَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٧

أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بِيَّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ، كَنْ زِينَ لَهُ مُسْوَدَّهُ مَعْلَمٌ
وَابْتَعُوا أَهْوَاهَهُمْ ١٨

مَلَلَ الْجَنَّةَ إِلَيْهِ وَعِدَ الْمُغْفِرَةِ فِيهَا أَنْهَرٌ مِّنْ تَأَاءُ عَيْنِ
عَاسِنٍ وَأَنْهَرٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَغْبَرْ طَعْمَهُ وَأَنْهَرٌ مِّنْ حَمَرِ
لَدْنَةٍ لِلشَّرِّيْنِ وَأَنْهَرٌ مِّنْ عَصَلَ مُصَبِّيٍّ وَطَمَنْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الشَّرَّ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ كَنْ هُوَ خَلِيلٌ فِي الْأَنْارِ
وَسَقُوا مَاءً حَيْمَانًا فَقَطَعَهُمْ نَعَمَّا هُمْ ١٩

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعْيِدُ إِلَيْكَ حَقَّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدَكَ
فَالْأُولُو الْلَّهِيْنُ أُولُو الْعِلْمِ مَا ذَادَ مَا أَنْهَا وَلِيَكَ الَّذِينَ
طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ فُلُوْبِهِمْ وَابْتَعُوا أَهْوَاهَهُمْ ٢٠

17. Atipe awon ti nwon tèle itosona, On yio şe alekun itosona won On yio fun won ni iberu (Olóhun) won.

وَالَّذِينَ آتَيْنَا رُزْقًا وَأَدْهَرْنَا لَهُدًى وَآتَيْنَاهُمْ فَتْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

18. Nwón kò reti nkankan ju akoko na ki o wa ba won lojiji? Dajudaju apere rè ti de. Bawo ni nwón yio ti gba iranti nigbati o ba wa ba won?

فَهَلْ يَعْلَمُونَ إِلَّا الْأَلَّاتُ أَنَّا أَنْبَيْنَاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ فَتَدَجَّأَهُمْ
أَشْرَاطُهَا فَإِنَّمَا إِذَا جَاءَهُمْ ذَكْرَنَا لَهُمْ ﴿١٨﴾

19. Mo amodaju pe kosi olóhun miran lehin Olóhun, ki o si wa asorijin kuro nibi şe dida fun ara rè ati fun awon onigbagbo ododo l'okunrin ati awon onigbagbo ododo lobirin. Atipe Olóhun mo lilò bibo nyin ati ibusinmi nyin.

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَذَلِكَ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَمْبَثَكُمْ
وَمَمْتَنَكُمْ ﴿١٩﴾

20. Atipe awon ti o gbagbo ni ododo wipe: Kinişé ti a kò şo surah kan kalè? Şugbon nigbati a ba şo surah kan kalè ti o yanju, ti a paşé ogun jijà ninu rè, ire yio ri awon ti arun wa ni ɔkàn won pe nwón ma wo ɔ bi ęni fè daku, fun ęru iku, nitorina ohun ti o dara fun won ju ni.

وَيَقُولُ الَّذِينَ مَأْمُوا لَوْلَا نُرِثْتَ سُورَةً هَذِهِ
أَنْرَثْتَ سُورَةً مُحَكَّمَةً وَذَكَرْ فِيهَا الْفَتَنَالْ
رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
نَظَرَ الْمَعْيِشِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ﴿٢٠﴾

21. Itèle (ti Olóhun) ati ɔrø daradara. Nitorina nigbati a ba pari ɔrø, nigbana ti nwón ba mu ti Olóhun şe iba dara ju fun won.

طَاعَةً وَقُولُ مَعْرُوفٍ فَإِذَا عَنِ الْأَمْرِ
فَلَوْصَدَقُوا اللَّهُ لَكَانَ حَمَرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾

22. Njé ę ha le ma reti pe ti ęba joga, ki ęyin wa şe ibajé lori ilè, ę o si tun ja okun ębi yin bi?

فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ وَنَفَعُوا الْحَامِكُمْ ﴿٢٢﴾

23. Awon elewonyi ni Qloahun ti şebi le, nitorina O di won leti O si fo oju won.

24. Awon kò ronu nipa Al-Kurani ni abi awon agadagodo wa lori awon ɔkàn won ni?

25. Dajudaju awon ti nwon şeri pada ləhin ti itosona ti han fun won; èsu jeki o rəwà loju won atipe o fun won ni ireti asan.

26. Eyi yio jé bę nitoripe nwon nsq fun awon ti nwon korira ohun ti Qloahun sɔkalè: pe awa yio tèle nyin ninu apakan ɔrò na. Atipe Qloahun mɔ asiri won.

27. Bawo ni yio ti ri nigbati awon Malaika ba pa won ti nwon yio ma gba won ni oju ati əhin won.

28. Eyi yio jé bę nitoripe nwon tèle ohun ti kò dunmɔ Qloahun, nwon si korira itelɔrun Rè, nitorina O so işe won di asan.

29. Abi awon ti arun wa ni ɔkàn won nro pe Qloahun kò ni fi adisɔkan buburu won han ni?

30. Atipe ti Awa ba fę Awa iba fi won han ɔ irę iba si mɔ won pęlu ami won atipe dajudaju irę yio mɔ won nipa ɔrò asan won. Qloahun lo mɔ awon işe nyin.

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعِنْتُمُ اللَّهُ
فَأَصْحَبْتُمُوهُمْ وَأَعْمَلْتُمُهُمْ
﴿٣﴾

أَفَلَا يَتَبَرَّوْنَ الْقُرْءَانَ
أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْعَالُهَا
﴿٤﴾

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَيْهِ أَذْنَابَهُ
مِنْ أَنْعَدَ مَانِبَتِنَ لَهُمُ الْهَدَىٰ
الشَّيْطَنُ سُوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَأَ لَهُمْ
﴿٥﴾

ذَلِكَ يَأْنَهُمْ قَاتُلُوا لِلَّذِينَ كَفَّهُوا مَاتَرَكَ
اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ
يَعْلَمُ إِنَّ رَهْزَهُ
﴿٦﴾

فَكَيْفَ إِذَا نَوَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِصَرِيبُونَ
وُجُوهُهُمْ وَأَذْبَرُهُمْ
﴿٧﴾

ذَلِكَ يَأْنَهُمْ أَتَبَعُوا مَا آَسَخَطَ اللَّهَ
وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَلَاحَبَطَ أَعْنَاهُ
﴿٨﴾

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ
أَنَّ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْفَنَهُمْ
﴿٩﴾

وَلَوْنَشَاءَ لَأَرْتَنَكُمْ فَلَعْنَفَنَهُمْ بِسِيمَهُ
وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَهْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ
أَعْمَلَكُمْ
﴿١٠﴾

31. Atipe dajudaju Awa o dan nyin wo titi Awa yio fi mo awon olugbiyanju ninu nyin ati awon onisuru atipe Awa o fi irohin nyin han.

وَلَنْ يَبُلوُكُمْ حَتَّىٰ نَعَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ
وَبَلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴿٣﴾

32. Dajudaju awon alaigbagbo ti nwon şeri (awon enia) kuro loju ɔna ti Qloahun ti nwon si ni ojışe (Qloahun) lara lehin ti itoşona ti han fun wən, nwon kò le şe inira kan fun Qloahun, atipe yio şo işe wən di asan.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَأَفْوَىٰ
الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَ لَهُمْ الْمُهَدَّىٰ لَمَّا نَصَرُوا اللَّهُ
شَيْئًا وَسَيُخِيِّطُ أَعْنَاهُمْ ﴿٤﴾

33. Eñyin onigbagbo ododo, e tèle ti Qloahun e tèle ti ojışe, ki e si ma pa işe nyin lofo.

بَلَّ كَيْفَيَّاتِ الَّذِينَ أَمْنَوْا لَبِيعُوا اللَّهَ وَلَطَبِيعُوا الرَّسُولَ
وَلَنْ يَنْظِلُوا أَعْنَاهُمْ ﴿٥﴾

34. Dajudaju awon ti wən şe aigbagbo ti nwon si nşeri (awon enia) kuro loju ɔna Qloahun, lehinna nwon ku si ori aigbagbo nitorina Qloahun kò ni mojukuro fun wən.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ شَمَّ مَا فَرَأُوا
وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَمَّا يَعْفِرُ اللَّهُ مَلَكَهُ ﴿٦﴾

35. E ma kärè, ki e ma wa pe ipe sibi atunse, eñyin ni e o borı, Qloahun wà pəlu nyin, kò si ni pa awon işe nyin lofo.

فَلَادِهُمُوا وَدَعَوْا إِلَىٰ أَسْلَمٍ وَأَسْأَلُوا أَعْلَمَوْنَ
وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَرِكُمْ أَعْنَاكُمْ ﴿٧﴾

36. Ohun ti igbesi aiye yi je ni ere ati awada, ti eñyin ba gbagbo lododo ti e si npaiya (Rè), yio si fun nyin ni ęsan işe nyin, kò ni bere awon ɔrɔ (owo) nyin lqwɔ nyin.

إِنَّمَا الْمُلْكَوْهُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ رَبُّ الْمُؤْمِنُوْنَ
يُؤْتِكُمُ الْمُجْرِمَكُمْ وَلَا يَسْتَكِنُكُمْ أَنْوَاكُمْ ﴿٨﴾

37. Ti O ba bere rè lqwɔ nyin ti O si wonkoko mo nyin, e o şe

إِنَّمَا الْكُوْهُ هَا فِي خَفْنَكُمْ

ahun, yio si mu arun ɔkàn nyin jade.

38. Eñyin na ni ẽniti a pè pé ki ẽ wa nawo si oju ɔna ti Olóhun, şugbón ninu yin wà ti o nse ahun, ẽniti o ba şe ahun, o şe e fun ori ara rẽ nikán. Olóhun ni Olórò şugbón alaini ni eñyin. Ti ẽ ba şeri pada yio fi awon ẽlomiran paro nyin ti nwon kò si ni şe bi eñyin.

(48) Suratul - Fathi

*Ni orukò Olóhun Ajóké aiye,
Aşaké ɔrun.*

1. Dajudaju Awa ti fun ɔ ni işegun ti o han gbangba.

2. Ki Olóhun le ba şe asoriji ohun ti o ti şiwaju ninu aşise rẽ ati eyiti o gbéhin, ati ki O le ba şe aşepe idéra Rẽ le ɔ lori ati ki O le tó ɔ si oju ɔna ti o tó tárà.

3. Ati ki Olóhun ba le ran ɔ lówo ni iranlówo ti o tobi.

4. On ni Ẽniti O so ifaiyabalè kalè sinu ɔkàn awon onigbagbó ododo ki nwon le ba lekun ni igbagbó pèlu igbagbó wón atipe ti Olóhun ni awon ɔmò ogun sanma ati ti ilè atipe Olóhun na je Onimimò, Olögbon.

5. Ki o le ba fi awon olugbagbó ododo ni ɔkunrin ati olugbagbó

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَصْنَعْنَاكُمْ

هَأَنْتُمْ هُنُولَاءُ دُعُوكُ لِتُنْفِعُونِي سَبِيلَ اللَّهِ
فِينَكُمْ مَنْ بِيَحْلِ وَمَنْ يَتَحْلِ فَإِنَّمَا يَتَحْلِ
عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْفَقِيرُ وَأَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ
وَلَمْ تَنْتَلِوْ إِسْتَبْدَلْ فَوْمَا غَيْرَكُمْ
ثُلَّا يَكُونُوا مِثْلَكُمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شُورَةُ الْعَبْتَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَحَنَّاكَ مَتَحَمِّيْنَا

لِغَيْرِكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ ذَنِيْكَ وَمَا تَأْخِرَ
وَيُنَذِّهُنَّهُ عَلَيْكَ وَيُهَدِّيْكَ صَرَاطًا مُسْتَقِيْمَا

وَيُصْرِكَ اللَّهُ نَصَارَاعَيْرِيْنَا

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِرَدَادُوا
إِيمَانَهُمْ وَلِلَّهِ جُهُودُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ

لِيُذْهِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاحَتْ تَجْرِي مِنْ تَحْمِيْنَا